

جرمانے کے نوٹسز

سکول کی غیر حاضری - S444 تعلیمی ایکٹ 1996

والدین اور نگہداشت کنندگان کے لیے معلومات

تعارف

یہ قانون مقامی حکام اور دیگر مجوزہ اداروں کو وہاں جرمانے کے نوٹسز جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے جہاں والدین/نگہداشت کنندہ سکول میں باقاعدگی سے بچے کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے قانونی ذمہ داری میں ناکام متصور کیے جا چکے ہوں۔ سکول سے غیر حاضریوں میں تخفیف کرنا قومی اور مقامی طور پر کلیدی ترجیح ہے کیونکہ سکول سے غیر حاضری طالب علم کی اہلیتی سطحوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور سکول کے معمولات اور دوسروں کی تعلیم کا حرج کرتی ہے۔

جرمانے کے نوٹسز کی وضاحت

والدین/نگہداشت کنندہ جرم کے مرتکب ہوتے ہیں اگر بچہ/بچی باقاعدگی کے ساتھ سکول جانے میں ناکام ہو جائے اور وہ غیر حاضریاں غیر مجاز شدہ طور پر درجہ بند کی جائیں۔ حالات پر منحصر طور پر، ایسے کیسز تعلیمی ایکٹ 1996 کے سیکشن 444 کے تحت قانونی کارروائی پر منتج ہو سکتے ہیں۔

جرمانے کا نوٹس قانونی کارروائی کا ایک متبادل ہے۔ جہاں والدین/نگہداشت کنندگان جرمانے کی ادائیگی کریں تو وہ قانونی کارروائی اور مجرمانہ سزا وصول کرنے سے بچ سکتے ہیں۔

جرمانے کی لاگتیں

جرمانے کے نوٹسز 120£ پر جاری کیے جاتے ہیں تاہم، جاری ہونے کے 21 دنوں کے اندر ادائیگی کرنے کی صورت میں لاگت 60£ ہوتی ہے۔

ٹیلیوری کا طریقہ

جرمانے کے نوٹسز ہمیشہ فرسٹ کلاس ڈاک کے ذریعے آپ کے گھر جاری کیے جاتے ہیں اور ہر بچے کے حوالے سے ہر والدین/نگہداشت کنندہ کو انفرادی طور پر جاری کیے جاتے ہیں۔

جرمانے کے نوٹسز کے لیے معیار

لنکا سائز کاؤنٹی کونسل نے ایک ضابطہ اخلاق کو اختیار کیا ہے جو ان تمام صورتوں کو بیان کرتا ہے جہاں جرمانے کے نوٹسز استعمال کیے جا سکتے ہیں جیسے:

- ✓ غیر مجاز شدہ غیر حاضری (بشمول والدین کی جانب سے نظر انداز کردہ غیر حاضری)
- ✓ بھگوڑا پن
- ✓ تسلسل کے ساتھ تاخیر** سے سکول میں آمد
- ✓ ٹرم کے دوران غیرمجاز کردہ رخصت
- ✓ مجاز کردہ رخصت سے واپسی میں تاخیر

ہر ایک صورت میں ایک طالب علم کو جرمانے کا نوٹس زیر غور لائے جانے سے قبل ایک ٹرم میں کم از کم 5 سکول کے دن/10 سیشنز کی غیر مجاز کردہ غیر حاضری یا 2 سے زائد مسلسل ٹرمز میں 7 سکول کے دن/14 سیشنز کی غیر مجاز کردہ غیر حاضری ہونی چاہیے۔

ایک بچے یا نو عمر فرد کے حوالے سے "والدین" کی اصطلاح، ہر اُس شخص پر مشتمل ہوتی ہے جو خواہ بچے کے والدین نہ بھی ہوں لیکن وہ بچے کی ولدیتی ذمہ دار بچے کی نگہداشت کرتے ہوں یعنی کہ بچے کے ساتھ رہنا اور روزمرہ کا تعلق ہونا۔

** تسلسل کے ساتھ تاخیر سے مراد وہ طالب علم ہیں جو سکول کا رجسٹر بند ہونے کے بعد سکول پہنچتے ہیں

انتخابات

غیر مجاز کردہ غیر حاضری اور تسلسل کے ساتھ تاخیر کی صورتوں میں**، آپ کو نوٹس جاری ہونے کے امکان کے ساتھ تحریری انتباہ موصول ہو گا۔ اس میں آپ کے بچے کی حاضری کی تفصیلات کی نقل شامل ہو گی۔ انتباہی خط آپ کو 15 سکول کے دن کی نگرانی کی مدت سے مطلع کرے گا جس دوران آپ کے بچے کو سکول سے کوئی غیر مجاز شدہ غیر حاضریوں کی اجازت نہیں ہو گی، بصورت دیگر جرمانے کا نوٹس جاری کیا جائے گا۔

غیر مجاز کردہ رخصت کی صورتوں میں، انتخابات کا اجراء کیا جائے گا جہاں اراداً غیر حاضری کے وافر نوٹس دیئے جا چکے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ صورتوں میں، جرمانے کے نوٹس بغیر کسی انتباہ کے جاری کیے جا سکتے ہیں۔

اپیلز

یہاں جب ایک دفعہ جرمانے کے نوٹس کا اجراء ہو جائے تو اس پر اپیل کا کوئی قانونی حق نہیں ہے۔ تاہم انتباہ یا جرمانے کا نوٹس موصول ہونے پر، اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی وکالت کر سکتے ہیں (مزید معلومات کے لیے اکثر پوچھے گئے سوالات دیکھیں)۔ سکول کی جانب سے وکالت کرنا زیر غور لانے کے دوران جرمانے کے نوٹس کے اوقات میں توسیع یا انہیں موخر نہیں کیا جا سکتا۔

ادائیگی

ادائیگی کے انتظامات کی تفصیلات جرمانے کے نوٹس میں شامل کی جائیں گی۔ آپ کو آگاہ ہونا چاہیے کہ جرمانے کے نوٹس کے حوالے سے جزوی یا قسطوں میں ادائیگی کا آپشن موجود نہیں ہے۔ کوئی یاد دہانیاں نہیں بھیجی جائیں گی۔

عدم-ادائیگی کے نتائج

آپ کے پاس جرمانے کی مکمل ادائیگی کرنے کے لیے نوٹس کی وصولی کے بعد 28 دن ہوں گے، جس کے بعد بہت سی صورتوں میں حکام کو بچے کی سکول میں باقاعدگی سے شرکت کو یقینی بنانے میں ناکامی کے اصل جرم کی بابت مقامی مجسٹریٹ کی عدالت میں سماعتوں کا آغاز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

جرمانے کے نوٹس کی عدم ادائیگی کی صورت میں، عدالتی سماعت کے حوالے سے مزید خط و کتابت کا اجراء کیا جائے گا۔ چند صورتوں میں، عدالت میں حاضری ضروری نہیں ہوتی؛ آپ کو موصول ہونے والی عدالتی کاغذی کارروائی طریقہ کار اور آگے کیا گیا جائے، اس حوالے سے وضاحت کرے گی۔

اگر آپ مجرم قرار دیئے گئے، تو یہ متعدد سزائوں بشمول £2,500 کے جرمانے اور/یا تین مہینے کی قید کا باعث بن سکتا ہے۔ حالات پر منحصر طور پر دیگر انتظامات جیسے ولدیتی حکم نامے یا کمیونٹی سزائیں بھی عائد کی جا سکتی ہیں۔ لاگتوں کو بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔

نوٹس کی ادائیگی اس مدت کے لیے سزایابی کی آپ کی ممکنہ جوابدہی کو ساقط کر سکتی ہے۔ تاہم، حالات پر منحصر طور پر ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ مزید مدت کی ناقص غیر حاضری جو نوٹس کے زیر احاطہ نہ آتی ہو اس ضمن میں قانونی کارروائی کو زیر غور لایا جا سکتا ہے۔

اگر آپ کو اپنے بچے کی حاضری کے حوالے سے کوئی خدشات درپیش ہیں تو آپ کو اسے زیر بحث لانے کے لیے سکول سے رابطہ کرنا چاہیے کہ اس حوالے سے کیا مدد دستیاب ہو سکتی ہے۔

** تسلسل کے ساتھ تاخیر سے مراد وہ طالب علم ہیں جو سکول کا رجسٹر بند ہونے کے بعد سکول پہنچتے ہیں (رجسٹر میں U کے طور پر نشان زدہ)

جرمانہ نوٹس کے اکثر پوچھے جانے والے سوالات

میرے شوہر/بیوی/ساتھی کو بھی مساوی جرم کے لیے جرمانہ نوٹس موصول ہوا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں کو جرمانہ ادا کرنا ہو گا؟

جی ہاں۔ ایک بچے کے تمام والدین کو جرمانہ نوٹس پیش کیا جا سکتا ہے اگر وہ سکول میں باقاعدگی سے حاضری کو یقینی نہ بنائیں۔ ہر جرمانہ نوٹس انفرادی طور پر فی والدین، فی بچہ جاری ہو گا اور قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے مکمل ادائیگی کرنا لازمی ہے۔

میرے ساتھی کے لیے بھی جرمانہ نوٹس جاری ہوا ہے لیکن وہ میرے بچے کے حقیقی والد/والدہ نہیں ہیں۔ کیا پھر بھی ان کو ادائیگی کرنا ہو گی؟

جی ہاں۔ ایک بچے یا نو عمر فرد کے حوالے سے "والدین" کی اصطلاح، ہر اُس شخص پر مشتمل ہوتی ہے جو خواہ بچے کے والدین نہ بھی ہوں لیکن وہ بچے کی ولدیتی ذمہ داری ادا کرتے ہوں یا جو بچے کی نگہداشت کرتے ہوں یعنی کہ بچے کے ساتھ رہنا اور روزمرہ کا تعلق ہونا۔

میرے بچے کے سلسلے میں تین جرمانہ نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں۔ حقیقی والدین میں سے ہر ایک کو ایک اور ایک سوتیلے والد/والدہ کو۔ کیا یہ درست ہے؟

جی ہاں۔ مندرجہ بالا کے مطابق ایک بچے کے تمام والدین کو جرمانہ نوٹس جاری کیا جائے گا اگر وہ باقاعدہ حاضری کو یقینی نہ بنائیں اور، ایک بچے یا نو عمر کے حوالے سے "والدین" کی اصطلاح، ہر اُس شخص پر مشتمل ہوتی ہے جو خواہ بچے کے والدین نہ بھی ہوں لیکن وہ بچے کی ولدیتی ذمہ داری ادا کرتے ہوں یا جو بچے کی نگہداشت کرتے ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ایک تعداد جرمانہ نوٹس کے لیے ذمہ دار ہو سکتی ہے۔

میں آئی/انکل/دادی، نانی/دادا، نانا/گھریلو دوست ہوں۔ مجھے جرمانے کا اجرا کیوں کیا گیا؟

اوپر مذکور طور پر، ایک بچے یا نو عمر فرد کے حوالے سے "والدین" کی اصطلاح، ہر اُس شخص پر مشتمل ہوتی ہے جو خواہ بچے کے والدین نہ بھی ہوں لیکن وہ بچے کی ولدیتی ذمہ داری ادا کرتے ہوں یا جو بچے کی نگہداشت کرتے ہوں یعنی کہ بچے کے ساتھ رہنا اور روزمرہ کا تعلق ہونا۔

آپ کو جرمانہ نوٹس موصول ہوا ہے کیونکہ تعلیم کے ایکٹ کے تحت آپ کا بچے کے حوالے سے اس کے والدین کے طور پر تعین ہوا ہے۔

مجھے غیر مجاز کردہ چھٹی کا جرمانہ موصول ہوا ہے لیکن میں محسوس کرتا/کرتی ہوں کہ چھٹی کو مجاز شدہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ حالات استثنائی ہیں/ علاوہ ازیں میرے بچے کی حاضری بہترین ہے/ میرا بچہ اعلیٰ کارکردگی رکھتا ہے/ یہ پہلی بار ہے کہ میں نے اپنے بچے کو سکول سے ہٹایا ہو۔ کیا میں جرمانہ نوٹس پر اپیل کر سکتا/سکتی ہوں؟

جرمانہ نوٹس پر اپیل کا کوئی قانونی حق نہیں ہے۔ یہ ہیڈ ٹیچر کی صوابدید پر ہے کہ آیا غیر حاضری کو استثنائی تصور کیا گیا یا نہیں اور اسے محکمہ برائے تعلیمی رہنمائی کی مطابقت کے ساتھ تعلیم میں طالب علم کے رجسٹریشن کے ضوابط کا اطلاق کرتے ہوئے مجاز شدہ کے طور پر ریکارڈ کیا گیا یا نہیں۔ سکول کی جانب سے چھٹی کی اجازت سے انکار، یا جرمانہ نوٹس کے اجرا کی درخواست کرنے کے سکول کے فیصلے کے حوالے سے سوالات غیر رسمی طور پر ہیڈ ٹیچر یا سکول کے شکایاتی طریقہ کار کے ذریعے انتظامی ادارے کے ساتھ اٹھائے جانے چاہئیں۔

سکول حاضری قانونی ٹیم کے مقامی حکام سکول کے فیصلہ سازی کے عمل پر اٹھائے گئے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ایسی تمام انکوائریاں واپس سکول کو بھیجی جائیں گی۔

میرا بچہ بیمار تھا مجھے کیوں جرمانہ کیا گیا؟

حاضری کا پرنٹ آؤٹ آپ کو وہ غیر حاضریاں دکھائے گا جو بطور غیر مجاز شدہ نشان زد کی گئیں اور جرمانہ نوٹس کے اجرا کا محرک بنیں۔ یہ سکول کا فیصلہ ہے کہ آیا وہ مبینہ بیماری پر غیر حاضری کو جائز قرار دیتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ سکول کے فیصلے سے غیر متفق ہیں تو اپنے تحفظات کا اظہار غیر رسمی طور پر ہیڈ ٹیچر کے ساتھ یا سکول کے شکایات کے طریقہ کار کے ذریعے انتظامی ادارے کے ساتھ کریں گے۔

سکول حاضری قانونی ٹیم کے مقامی حکام سکول کے فیصلہ سازی کے عمل پر اٹھائے گئے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ایسی تمام انکوائریاں واپس سکول کو بھیجی جائیں گی۔

میں حالیہ طور پر سکول کے ساتھ اپنے بچے کی جانب سے لی گئی چھٹی کے لیے جرمانہ نوٹس کی منظوری/درخواست نہ کرنے کے ان کے فیصلے کے متعلق سکول کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ کیا معاملہ طے کرنے کے دوران جرمانہ نوٹس مؤخر کر دیا جائے گا؟

جرمانہ نوٹس کے قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ادائیگی کے اوقات میں تاخیر یا توسیع کی جائے۔ چونکہ جرمانہ نوٹس کا اجرا ہو چکا ہے، معاملے کی پیروی کے دوران، آپ سے تقاضا کیا جائے گا کہ آپ مخصوص اوقات میں جرمانہ کی ادائیگی کریں تاکہ عدالت تک جانے سے بچ سکیں۔ اگر چھٹی کو ناجائز قرار دیئے جانے کا فیصلہ ختم کر دیا جاتا ہے جس پر جرمانہ لاگو کیا گیا ہے، تو رقم واپس جاری کر دی جائے گی۔

میں سمجھتا ہوں کہ جرمانہ نوٹس غلطیوں پر مشتمل ہے؛ کیا پھر بھی مجھے ادائیگی کرنا ہو گی؟
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جرمانہ میں مواد کی غلطیاں ہیں، تو آپ کو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیئے کیونکہ آپ ابھی بھی جواب دہ ہیں۔ آپ کو اجرا آفیسر (عدالتی آفیسر) سے جلد از جلد رابطہ کرنا چاہیئے جو اس معاملے کی چھان بین کرنے کا اہل ہو گا اور یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ یہ واپس لے لیا جائے گا یا دوبارہ جاری کیا جائے گا اور آپ کو پھر بھی ادائیگی کرنا ہو گی۔

مجھے جرمانہ کیسے ادا کرنا ہو گا؟

آپ اپنا جرمانہ www.lancashire.gov.uk/online/pn پر بذریعہ *MasterCard*، *Maestro*، *Visa*، *Electron* اور *Solo* ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کو جرمانہ نوٹس کی ضرورت ہو گی کیونکہ آپ سے جرمانہ نوٹس نمبر پوچھا جائے گا۔ متبادل کے طور پر، آپ نوٹس کے نیچے کی پرچی کو مکمل کر کے مطلوبہ رقم کے چیک یا پوسٹل آرڈر کے ہمراہ دئیے گئے پتے پر لوکل اتھارٹی کو ارسال کر دیں۔

میں کیسے جان سکوں گا کہ پوسٹ میں میری ارسال کردہ رقم موصول ہو گئی ہے؟
عدالتی آفیسر یہ بتانے کے لیے آپ کو ایک خط بھیجے گا کہ آپ کی ادائیگی ہو گئی ہے۔

کیا مجھے ڈاک کے ذریعے ادائیگی کرتے ہوئے رقم کے ساتھ کچھ اور بھیجنے کی ضرورت ہے؟
آپ جرمانہ نوٹس کے زیریں حصے سے ادائیگی کی پرچی بھیجیں یا اپنے چیک یا پوسٹل آرڈر کے پیچھے اپنا اور طالب علم کا نام تحریر کر دیں۔ اگر ہم اس بات کی شناخت نہ کر سکیں کہ کس طالب علم سے متعلق ادائیگی کی گئی اور کس نے ادائیگی کی تو خلاف ورزی ساقط نہیں ہو گی اور آپ کو عدالت لے جایا جائے گا۔ آپ www.lancashire.gov.uk/online/pn پر آن لائن ادائیگی کو زیادہ باسہولت پا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے جرمانہ نوٹس کی ضرورت ہو گی کیونکہ آپ سے جرمانہ نوٹس نمبر پوچھا جائے گا۔

اگر جرمانہ نوٹس مجھ سے گم ہو جائے تو؟

آپ پھر بھی ڈاک کے ذریعے ادائیگی کر سکتے ہیں، پوسٹل آرڈر یا چیک کے پیچھے اپنا نام اور اُس بچے کا نام لکھ دیں جس کے لیے جرمانہ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ **01772 534950** پر کال کر سکتے ہیں۔

میرے پاس ایک سے زیادہ جرمانہ نوٹس ہیں جن کی مجھے ادائیگی کرنی ہے اور میں ڈاک کے ذریعے ادائیگی کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے الگ الگ چیک/پوسٹل آرڈر بھیجنے ہوں گے یا میں ایک ہی چیک/پوسٹل آرڈر کے ذریعے جرمانہ ادا کر سکتا ہوں؟

آپ ایک ہی چیک/پوسٹل آرڈر کے ذریعے ایک سے زیادہ جرمانہ نوٹس کی ادائیگی کر سکتے ہیں، صرف اس بات کو یقینی بنائیے کہ ادائیگی کے ساتھ وہ معلومات شامل ہوں جو ہمیں بتا دیں کہ آپ کس جرمانے کی ادائیگی کر رہے ہیں۔

میں جرمانہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، کیا میں قسطوں میں جرمانہ ادا کر سکتا ہوں؟

جرمانہ نوٹس کے قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ جزوی ادائیگی کی جائے اور جرمانہ نوٹس پر مجوزہ اوقات میں ہی جرمانے کی مکمل ادائیگی کرنا ہو گی۔

میں نے اپنا جرمانہ ادائیگی کے لیے کسی اور کو دیا تھا لیکن انہوں نے ابھی تک ادائیگی نہیں کی اور مقررہ تاریخ گزر چکی ہے۔ کیا پھر بھی میں جوابدہ ہوں؟

جی ہاں۔ آپ خود کو جاری کردہ جرمانہ نوٹس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے جرمانہ ادا نہیں کیا گیا، تو مقدمہ قانونی کارروائی کے لیے درج کیا جائے گا۔ جرمانے کی ادائیگی کے لیے کسی اور پر انحصار کرنا عدالت میں دستیاب دفاع نہیں ہو گا۔